



# تعمیر اخلاق

نثریں اقوال

مکتبہ اسلامی

تخلہ سادات بئیرن دہلی گیٹ ملتان

قیمت ۱/۵۰



# ضرور کر

تبلیغ

- ۱۔ جوانی میں زیادہ عبادت
- ۲۔ ماں باپ کی خدمت
- ۳۔ دسترخوان کو وسیع
- ۴۔ صدقہ اور خیرات
- ۵۔ سچے دوست کی تلاش
- ۶۔ ہر ٹرے کا ادب
- ۷۔ عورت حاصل کرنے میں کوشش

# مَرت بھول

# نہ دے

اپنی موت کو  
خدا کو

دوسرے کے قرض کو

اپنے وعدے کو

ماں باپ کی وصیت کو

زندگی کے صحیح مقصد کو

عزیز و اقارب اور

صلہ رحمی کو

پڑوسی کو تکلیف

بیوی کو طعنہ

کسی کو غلط مشورہ

بلا اجازت دوسرے کی چیز

مال کے پیچھے عزت

عورت کو زیادہ آزادی

بغیر سوچے سمجھے جواب



# دوستی کے قابل ہے

- ۱۔ دوسروں کا عیب چھپانے والا
- ۲۔ معذرت کو قبول کر لینے والا۔
- ۳۔ احسان کر کے بھول جانے والا
- ۴۔ عقلمند جو عقل و حکمت کی باتیں سکھاتا ہو
- ۵۔ وہ نیک شخص جس کے دل میں دنیا کی بے غلٹی ہو
- اور مالداروں کے دروازوں کے چکر نہ کاٹتا ہو
- ۶۔ جو بے غرض ہو اور محض اللہ کے واسطے دوستی رکھتا ہو
- ۷۔ جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو اور ماں باپ کا فرمانبردار ہو

# حماقت کی نشانی ہے

- ۱۔ بغیر نیکی اور عبادت کے آخرت میں ثواب و جنت کی امید
  - ۲۔ خود سیوفانی کی عادت سے بڑے بڑے دوسروں سے دنیا کی امید
  - ۳۔ بد اخلاقی یا بخل کے سوتے سوتے سچا دوست ملنے کی امید
  - ۴۔ آرام طلبی اور سستی کے ساتھ مراد پانے کی امید
  - ۵۔ بیوی سے دزل لڑنے کے باوجود گھر میں چین و راحت کی امید
  - ۶۔ اولاد کو نہ بھی تعلیم و تربیت دینے کے باوجود
- فرمانبرداری کی امید
- ۷۔ بیماری میں بد پرہیزی کے ساتھ تندرستی کی امید

# ممكن نہیں کہ

- ۱۔ جیسی صحبت میں بیٹھے ویسا ہی نہ بنے۔
  - ۲۔ ہر کام میں جلدی کرے اور نقصان نہ اٹھائے
  - ۳۔ دنیا سے دل لگائے اور پشیمان نہ ہو۔
  - ۴۔ ہمت استقلال کو شعار بنائے اور مد کو نہ پہنچے
  - ۵۔ زیادہ باتیں کرے اور کو وقت نہ اٹھائے۔
  - ۶۔ عورتوں کی صحبت میں بیٹھے اور رسوائی نہ ہو
  - ۷۔ دوسروں کے جھگڑوں میں پڑتا پھرے اور
- آفت نہ پھلے

# ہوتا ہے

- ۱۔ زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا
- ۲۔ زیادہ چالوسی کرنے والا منافق
- ۳۔ زیادہ باتیں کرنے والا بیوقوف
- ۴۔ زیادہ ہنسنے ہنسانے والا مُردہ دل
- ۵۔ زیادہ ہر دلعزیزی بات نہ کہنے والا
- ۶۔ شیخی مارنے والا چھپوہ
- ۷۔ بے حیائی اختیار کرنے والا خطرناک



# آتی ہے

- ۱۔ فضول خرچی کرنے سے مفلسی
- ۲۔ محنت و دیانت اور کفایت شعاری سے دولت
- ۳۔ بے ادبی کرنے سے بد نصیبی۔
- ۴۔ تقسیم کا بیوہ کا اور واقف کار کا مال ناحق کھانے سے بربادی
- ۵۔ بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ادب اور عقل
- ۶۔ غیبت کرنے اور سننے سے بیماری
- ۷۔ مصیبت و تکلیف میں صبر کرنے اور شکوہ کرنے سے راحت۔



# بہترین نیکی اور شرافت سے

- ۱۔ قابو پا کر معاف کر دینا
- ۲۔ اہل و عیال و اے مفلس کی خفیہ مدد کرنا
- ۳۔ مخفی قرض اور حق کو ادا کر دینا۔
- ۴۔ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا مٹانے کیلئے سہاموش ہونا
- ۵۔ کمزور اور مظلوم کی حمایت کرنا۔
- ۶۔ جہاں کوئی نہ کہہ سکے اور ضرورت ہو وہاں حق بآکھدینا
- ۷۔ برائی پانے کے باوجود رشتہ داروں کے ساتھ احسان سلوک کرتے رہنا

# قبول کملے

- ۱۔ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو
- ۲۔ بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے
- ۳۔ دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو
- ۴۔ غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو
- ۵۔ ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو
- ۶۔ اپنی غلطی چاہے ذلت ہو
- ۷۔ نیک بیوی کی محبت چاہے بد صورت ہو

# دُور ہے گا

---

- ۱۔ بد مزاج محبت سے
  - ۲۔ بد معاہدہ عزت سے
  - ۳۔ بے ادب خوش نصیبی سے
  - ۴۔ لالچی اطمینان سے
  - ۵۔ بخیل سچے دوست سے
  - ۶۔ آرام طلب ترقی سے
  - ۷۔ دولت جمع کرنے والوں کے چین سے
-

# آزما یا جاتا ہے

- ۱۔ بہادر مقابلے کے وقت
  - ۲۔ مستقل مزاج مصیبت کے وقت
  - ۳۔ امانت دار مفلسی کے وقت
  - ۴۔ عورت کی محبت فاقہ کے وقت
  - ۵۔ دوست ضرورت کے وقت
  - ۶۔ بردبار غصہ کے وقت
  - ۷۔ شریف معاملہ ٹوٹنے کے وقت
-

# ظاہر مت کر

- ۱۔ کسی کا عیب
  - ۲۔ دل کا بھید
  - ۳۔ امانت بات
  - ۴۔ پوری طاقت
  - ۵۔ سفر کرنے کی سمت
  - ۶۔ اپنی تجارت کا فائدہ اور نقصان
  - ۷۔ زیادہ ضرورت
-

# نہیں چلتی

- ۱۔ جاہلوں کے سامنے عقلمند کی دلیل
- ۲۔ مالداروں کے مجمع میں غریب کی بات
- ۳۔ خیالات کی دنیا پر کسی کی حکومت
- ۴۔ ظالم کے سامنے کوئی محبت
- ۵۔ موت کے سامنے کوئی حکمت
- ۶۔ بددیانت اور جھگڑالو کی دکان
- ۷۔ تقدیر کے آگے کوئی تدبیر

# دوستی مت کر

- ۱۔ غرض مند اور لالچی سے
  - ۲۔ بدکار اور مکار سے
  - ۳۔ دوست کے دشمن اور دشمن کے دوست سے
  - ۴۔ چھچھوڑے اور شیخی خورے سے
  - ۵۔ بے جانے بوجھے اور بخیل سے
  - ۶۔ بیوقوف اور جھوٹی گواہی دینے والے سے
  - ۷۔ جس شخص سے مال باپ منع کریں۔
-

# مت کر

- ۱۔ زنا ۲۔ کسی پر ظلم ۳۔ حق بات کرنے سے گریز
- ۴۔ بغیر تجربہ کے کسی پر بھروسہ۔
- ۵۔ بغیر مشورہ کے کوئی کام
- ۶۔ کسی پر نکتہ چینی
- ۷۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق
- ۸۔ پیٹھ پیچھے بُرائی
- ۹۔ خوب سوچے سمجھے بغیر عورت کے کہنے پر عمل
- ۱۰۔ حاجت مند رشتہ دار کو نانا امید!



# بیانِ امتِ کرم

- ۱۔ بے تحقیق بات
- ۲۔ خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت
- ۳۔ حاسد کے سامنے اپنی آمدنی
- ۴۔ کسی کے سامنے اپنی بے حیائی کے قصے
- ۵۔ کمزور کے سامنے اس کی کمزوری
- ۶۔ بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف
- ۷۔ اپنی زبان سے اپنی خوبیاں

# ان سے بھید مت کہہ

۱۔ جس کے خلاف تو نے کبھی فیصلہ دیا ہو

۲۔ جس کی بھلائی تیری بُرائی میں ہو

۳۔ جس کو آزایا نہ ہو۔

۴۔ جس کی طبیعت میں شرارت ہو

۵۔ جو تیری طرف سے ناامید ہو گیا ہو

۶۔ جو تیرے دشمن کے پاس بیٹھتا ہو

۷۔ جو عورت یا لڑکا ہو

# منتظر ہے

- ۱۔ زیادہ کھانے والا بیماری کا
- ۲۔ اوباش یاروں والا بربادی کا
- ۳۔ چغل خوری کرنے والا ذلت و خواری کا
- ۴۔ ماں باپ کا نافرمان اپنی اولاد کی نافرمانی اور مفلسی کا
- ۵۔ خسرو ساس سے برابر تاؤ کرنے والا اپنے داماد کا
- ۶۔ ظلم کرنے والا اپنی ہلاکت کا
- ۷۔ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا جلد خدا کے قہر و عذاب کا

# دُور بھاگ

- ۱۔ بُری صحبت سے ۲۔ تہمت کی جگہ سے
- ۳۔ جھگڑے اور مقدمہ بازی سے
- ۴۔ سمدھیانہ کے پڑوس سے
- ۵۔ نشہ بازوں کی مجلس سے
- ۶۔ غیبت کے کرنے اور سُننے سے
- ۷۔ فحش نادلوں اور رسالوں سے
- ۸۔ امیر سے جب بھوکا ہو جاوے
- ۹۔ کمین سے جب امیر ہو جاوے

# مت بڑھا

۱۔ بات

۲۔ قرض

۳۔ عیش و عشرت کا سامان

۴۔ زیادہ لوگوں سے بے تکلفی

۵۔ بد اعمالی کا بوجھ

۶۔ پڑوسی سے دشمنی

۷۔ آمدنی سے زیادہ خرچ

۱۔ ماں کا دل

۲۔ کسی کا دل

۳۔ بچہ کے چہرہ اور سر پہ

۴۔ دوسرے کے بچہ کو

۵۔ پڑوسی کے پالتو جانور کو

۷۔ کسی کو کمزور سمجھ کر

# شکایتِ مرت کر

- ۱۔ اپنی قسمت کی اور زمانہ کی
- ۲۔ اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی
- ۳۔ اپنا ذاتی ہوتے ہوئے مکان کی تنگی کی
- ۴۔ کبھی بھول کر بھی ماں باپ اور استاد کی
- ۵۔ غیبر کے سامنے اپنے دوست کی۔
- ۶۔ بیوی کے سامنے اس کے میکے والوں کی
- ۷۔ رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔

# بہت سے

- ۱۔ بدکار اور بُرے آدمی کی صحبت سے سانب کی صحبت
- ۲۔ جھگڑا مول لینے سے غم کھا لینا
- ۳۔ بے غیرتی کی زندگی سے عزت کی موت
- ۴۔ بے موقع بولنے کی عادت سے گونگا ہو جانا
- ۵۔ حرام کے مال کی مالداری سے مفلسی
- ۶۔ چھوٹے آدمی کی مدد اور ہدیہ سے فاقہ
- ۷۔ خوف و ذلت کے حلوے سے آزادی کی خوشگ

روٹی

# شکست کھالے

- ۱۔ علم و ہنر کے اظہار میں اُستاد سے
- ۲۔ زبان چلانے میں عورت سے۔
- ۳۔ بڑی آواز سے بولنے میں گدھے سے
- ۴۔ بحث کرنے میں جاہل سے
- ۵۔ کھانے پینے میں ساتھی سے
- ۶۔ مال خرچ کرنے میں شیخی خور سے
- ۷۔ لڑائی لڑنے میں بیوی سے۔



# مت چلا

- ۱۔ بڑوں کے سامنے زبان
- ۲۔ بات کرنے میں آنکھیں اور ہاتھ
- ۳۔ جان کر کھوٹا سگے
- ۴۔ محلہ اور بازار میں تیز سواری
- ۵۔ اپنی جانب سے کوئی بُری رسم
- ۶۔ دوسروں کے درمیان اپنی بات
- ۷۔ کبھی کسی کو غلط راستہ پر

# دوست کی مدد

- ۱۔ نہ کہے اور نہ کرے یہ خصلت جو امزدوں کی ہے
- ۲۔ کہے اور نہ کرے یہ خصلت منافقوں کی ہے
- ۳۔ کہے اور نہ کرے یہ خصلت سوداگروں کی ہے
- ۴۔ نہ کہے اور نہ کرے یہ خصلت پست ہمتوں کی ہے
- ۵۔ نہ کرے اور نہ کسی کو کرنے دے یہ خصلت رذیلوں کی ہے
- ۶۔ بھڑھی کرے اور بہت احسان تجاے یہ خصلت کمینوں کی ہے
- ۷۔ بہت کرے اور بھول جائے یہ خصلت عالی مرتبہ لوگوں کی ہے۔

# مت مٹھکرا

- ۱- ماں باپ کی محبت
- ۲- ملتی ہوئی روزی
- ۳- کھانے پینے کی چیز
- ۴- چھوٹی سے چھوٹی نعمت
- ۵- بہن کی محبت
- ۶- اپنے خیر خواہوں کی بات

# پنی لے

- ۱۔ کڑوی بات
- ۲۔ بیماری میں دوا
- ۳۔ تازہ مٹھا
- ۴۔ دشمن کے سامنے آنسو
- ۵۔ رات کو سوتے وقت تھوڑا گرم دودھ
- ۶۔ جس دریا میں گذرے اس کا پانی
- ۷۔ بے موقع کا غصہ



# نہیں کھانا

- ۱۔ شیر گھاس، اگرچہ بھوکا مر جائے
- ۲۔ بہادر پٹھیہ پر وار، اگر جان چلی جائے
- ۳۔ عالی نسب شریف آدمی رشوت، اگرچہ بہت بڑی ہو
- ۴۔ عقلمند بغیر خوب بھوک کے کھانا، اگرچہ بہت لذیذ ہو
- ۵۔ سمجھدار آدمی کسی کا دماغ، اگرچہ خالی ہو۔
- ۶۔ نیک آدمی ناحق پر ایامان، اگرچہ کسی کو خبر نہ ہو
- ۷۔ بلند ہمت بے غیرتی کی روٹی، اگرچہ آسان ہو



# غلطی ہے

۱۔ اس خیال میں رہنا کہ میں ہمیشہ تندرست اور خوبصورت رہوں گا

۲۔ اس نیت سے عیب کرنا تاکہ صرف دو چار مرتبہ کر کے

چھوڑ دوں گا

۳۔ ہر ایک انسان کے متعلق ظاہری صورت دیکھ کر

رائے قائم کرنا۔

۴۔ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد

سے اس کی توقع رکھنا۔

۵۔ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی خدائی

عطیہ کا اُمیدوار رہنا۔

۶۔ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا۔ اور ہر ایک شیریں

زبان کو درست سمجھ لینا۔

۷۔ دوسروں کی موت دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو

اس سے بری سمجھنا۔

۸۔ ادائیگی قرض سے متعلق دلفریب ذرائع آمدنی کا

تصور باندھ کر غیر ضروری اخراجات کے لئے

بے دھڑک قرض لینا۔

مکتبہ عالیہ تھلہ سادات

بیرون دہلی گیٹ ملتان

رسید ایکٹرک پریس ملتان

# تصانیف علامہ محمد ابو الخیر ضا اسدی

۲/۲۵	میراث میں عدل	۵۰/-	نسیم الحدیث
۱/۲۵	مدنی نماز	۱/-	سوشلسٹ علماء کا کردار
۱/۵۰	گنج الوزارت	۵۰/-	سوشلزم کے لحاظ سے عزائم
۱/۹۰	سلب الایمان	۳۰/-	کیونز اور مذہب
۱/۹۰	تحریف الاذان	۷/-	قرآن میں حکومت کا انتخاب
۱/۹۰	دینی اداروں کے چندے	۴۵/-	چشمہ حقانی
۱/-	تفہیم النبوة	۶۰/-	گیارہ صوفی شریف
۱/۲۵	شادی کی جاہلانہ رسمیں	۶۰/-	مردہ ٹیکس
۱/۴۵	مسخ الاشکال	۶۵/-	نبوتہ بازی
۱/۴۵	رقص و سرود	۳۰/-	ہیجڑوں کا پیشہ
۱/۶۰	تعلیم امام اعظم	۲/۲۰	شکر کی اثرات کا حمل
۱/۶۰	تعلیم الحيوان	۲۵/-	عصمت کا کفن
۱/۶۰	تعلیم بریلویت		ڈاک خرچہ ایک سالہ ۲ پیسہ کا پیسہ

مکتبہ اعلیٰ متحدہ سادات اہل بیت علیہم السلام